

رول نمبر امیدوار:

HEALTH & PHYSICAL EDUCATION

(III) - 222 (سیکنڈری سکول پارٹ II، کلاس دہم)

صحت و جسمانی تعلیم

Time: 15 Minutes

Paper: II

OBJECTIVE

معمولی

پرچہ: II

وقت: 15 منٹ

Marks: 12

Code: 7425

447-22

مارکس: 12

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

1. 1 - The kinds of beverages are \_\_\_\_\_ .  
1. 1 - مشروبات کی \_\_\_\_\_ اقسام ہوتی ہیں۔  
4 (D) 3 (C) 2 (B) 5 (A)
- 2 - The food which has all ingredients of diet is called \_\_\_\_\_ .  
2 - ایسی غذا جس میں تمام غذائی اجزاء موجود ہوں \_\_\_\_\_ کہلاتی ہے۔  
unbalance diet (B) غیر متوازن غذا (A) متوازن غذا  
nutrition (D) غذائیت (C) عام غذا  
normal diet
- 3 - The standard track of relay race is \_\_\_\_\_ meters.  
3 - ذاک دوڑ کا معیاری ٹریک \_\_\_\_\_ میٹرز ہوتا ہے۔  
400 (D) 300 (C) 200 (B) 100 (A)
- 4 - The length of table in table tennis is \_\_\_\_\_ meters.  
4 - ٹیبل ٹینس میں میز کی لمبائی \_\_\_\_\_ میٹرز ہوتی ہے۔  
4.74 (D) 3.74 (C) 2.74 (B) 1.74 (A)
- 5 - The measurement of shooting circle in hockey is \_\_\_\_\_ meters.  
5 - ہاکی میں شوٹنگ سرکل کی پیمائش \_\_\_\_\_ میٹرز ہوتی ہے۔  
16.64 (D) 15.64 (C) 14.63 (B) 11.64 (A)
- 6 - The colour of table tennis Net is \_\_\_\_\_ .  
6 - ٹیبل ٹینس کے جال کا رنگ \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔  
white (D) سفید (C) سبز (B) سرخ (A) کالا  
green
- 7 - \_\_\_\_\_ is a Pakistani drink.  
7 - \_\_\_\_\_ پاکستانی مشروب ہے۔  
lassi (D) لسی (C) کافی (B) سکوائش (A) برانڈی  
coffee
- 8 - Infectious diseases spread through \_\_\_\_\_ .  
8 - متعدی امراض \_\_\_\_\_ سے پھیلتے ہیں۔  
bacteria (B) جراثیم (A) سردی  
cold  
healthyman (D) تندرست آدمی (C) ادویات  
medicine
- 9 - The width of each lane of standard track is \_\_\_\_\_ meters.  
9 - ایک معیاری ٹریک کی راہداریوں کی چوڑائی \_\_\_\_\_ میٹرز ہوتی ہے۔  
1.22 (D) 1.18 (C) 1.14 (B) 1.10 (A)
- 10 - In discus throw, the diameter of throwing circle is \_\_\_\_\_ meters.  
10 - ڈسکس پھینکنے کے دائرے کا اندرونی قطر \_\_\_\_\_ میٹرز ہوتا ہے۔  
4.50 (D) 3.50 (C) 2.50 (B) 1.50 (A)
- 11 - The width of hockey ground is \_\_\_\_\_ meters.  
11 - ہاکی گراؤنڈ کی چوڑائی \_\_\_\_\_ میٹرز ہوتی ہے۔  
55 (D) 45 (C) 35 (B) 25 (A)
- 12 - A good player is \_\_\_\_\_ .  
12 - ایک اچھا کھلاڑی \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔  
punctual (D) وقت کا پابند (C) بیمار (B) سست (A) نالائق  
silly

144-(III)-222-15000

Note: Section I is compulsory. Attempt any TWO (2)

نوٹ: حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو (2)

questions from Section II.

سوالات کے جوابات لکھئے۔

### Section - I حصہ اول

2 - Write short answers to any FIVE (5) questions. (5 x 2 = 10) - 2 کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

- What is physical fitness? Explain briefly. - i فزیکل فٹنس کیا ہوتی ہے؟ مختصر بیان کیجئے۔
- Write down two principles of recreation. - ii تفریح کے دو اصول تحریر کیجئے۔
- What is good posture? Explain briefly. - iii اچھی قامت کیا ہوتی ہے؟ مختصر تحریر کیجئے۔
- Write down names of two small area games. - iv دو چھوٹے رقبے کے کھیلوں کے نام تحریر کیجئے۔
- Write down briefly "Bully" in hockey. - v ہاکی میں "بلی" کی مختصر وضاحت کیجئے۔
- What is penalty stroke? Explain briefly. - vi پینالٹی سٹروک کیا ہے؟ مختصر بیان کیجئے۔
- Write down briefly on "scoring" in table tennis. - vii ٹیبل ٹینس میں "سکورنگ" پر مختصر نوٹ لکھئے۔
- What is meant by "Let" in table tennis? - viii ٹیبل ٹینس میں "لیٹ" سے کیا مراد ہے؟

3 - Write short answers to any FIVE (5) questions. (5 x 2 = 10) - 3 کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

- Write down briefly about throwing circle of discus. - i ڈسکس پھینکنے کے دائرہ بارے مختصر لکھئے۔
- Explain briefly the method of throwing discus. - ii ڈسکس پھینکنے کے طریقہ کار کی مختصر وضاحت کیجئے۔
- Explain briefly take off board in long jump. - iii لمبی چھلانگ میں ٹیک آف بورڈ کی مختصر وضاحت کیجئے۔
- Write down two fouls of long jump. - iv لمبی چھلانگ کے دو ناؤڈلز تحریر کیجئے۔
- Explain briefly about 4x100 meters race. - v 4x100 میٹرز ریس کی مختصر وضاحت کیجئے۔
- Write down the weight and length of baton. - vi بیٹن کا وزن اور لمبائی تحریر کیجئے۔
- Write down the methods of changing the baton. - vii بیٹن کی تبدیلی کے طریقے تحریر کیجئے۔
- Write down short note on 400 meters track. - viii 400 میٹرز ٹریک پر مختصر نوٹ لکھئے۔

4 - Write short answers to any FIVE (5) questions. (5 x 2 = 10) - 4 کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

- What is meant by community health? - i معاشرتی صحت سے کیا مراد ہے؟
- Write down short note on scouts camping. - ii سکاؤٹ کیمپنگ پر مختصر نوٹ لکھئے۔
- Write down the sources of cleaning the air. - iii ہوا کو صاف کرنے کے ذرائع تحریر کیجئے۔
- What is meant by nutrition? - iv غذائیت سے کیا مراد ہے؟
- Write down two demerits of tea. - v چائے کے دو نقصانات تحریر کیجئے۔
- Write down two demerits of coffee. - vi کافی کے دو نقصانات تحریر کیجئے۔
- Write down short note on tea. - vii چائے پر مختصر نوٹ لکھئے۔
- Write down two advantages of drinks. - viii شربت کے دو فوائد تحریر کیجئے۔

### Section - II حصہ دوم

- Write down in detail rules of 4x100 meters relay race. (9) - 5 4x100 میٹرز ریلے ریس کے قوانین تفصیل سے تحریر کیجئے۔
- Write down in detail about school and home building. (9) - 6 گھر اور سکول کی عمارت بارے تفصیل سے بیان کیجئے۔
- Draw the sketch of hockey ground. Also write down its measurements. (9) - 7 ہاکی کے گراؤنڈ کا خاکہ بنائیے اور اس کی پیمائش تحریر کیجئے۔